



### سٹی آف برامپٹن اپنے رہائشیوں اور کاروباری اداروں کے لیے 19 اگست تک ٹیکسز کو مؤخر کرنے اور تب تک تمام جرمانے معاف کرنے کی سہولت کو برقرار رکھے ہوئے ہے

برامپٹن، آن (4 مئی 2020) - سٹی آف برامپٹن کی جانب سے اپنے رہائشیوں اور کاروباری اداروں کو 18 مارچ تا 19 اگست تک کے پانچ مہینوں کے دوران ٹیکسوں کی مؤخر ادائیگی اور سود و تاخیری ادائیگیوں پر جرمانوں کی معافی کی پالیسی برقرار رکھی جائے گی۔ یہ سہولت عبوری ٹیکس بل کے لیے ہے جو جنوری کے مہینے میں بھیجا گیا تھا۔

مؤخر کرنے کا یہ پروگرام کووڈ-19 کے دردمعمل میں 21 مارچ کو متعارف کرایا گیا تھا۔

اگر کسی نے ٹیکس کی پری اتھرائیزڈ ادائیگیوں کو منسوخ کرنے کے حوالے سے پہلے سٹی کے ساتھ رابطہ نہ کیا ہو اور اگر وہ مئی اور جون کی قسطوں کے لیے اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں، تو انہیں اپنی گزارش جمع کرانے کے لیے سٹی کی ویب سائٹ پر موجود [آن لائن فارم](#) لازمی مکمل کرنا ہو گا۔ پیشگی طور پر مجاز ادائیگی کو بعد کی کسی تاریخ پر دوبارہ جاری کرانے کے لیے، ادائیگی کرنے والے شخص کو دوبارہ سٹی کو درخواست دینی ہو گی۔

ایسے افراد یا کاروباری ادارے جن کے ٹیکس ان کے مورگیج کے طور پر ادا کیے جاتے ہیں، انہیں اپنے مورگیج پرووائیڈر سے رابطہ کر کے اس بات کا تعین کرنا چاہیے کہ آیا وہ اپنی ٹیکس ادائیگیاں منسوخ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مورگیج پرووائیڈر کو سٹی سے رابطہ کر کے بتانا چاہیے کہ وہ کسی رہائشی/کاروبار کو اپنی فہرست سے نکال دیں۔

ٹیکس کے ملتوی ہونے کا یہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ ٹیکس منسوخ ہو گیا ہے۔ اس وقت موجود کسی بھی واجب الادا بیلنس پر جرمانے اور سود سے بچنے کے لیے، سٹی کو تمام ادائیگیاں 19 اگست سے پہلے موصول ہو جانی چاہیں۔ ٹیکس دہندگان کے پاس یہ اختیار موجود ہو گا کہ وہ 19 اگست کی حتمی تاریخ سے پہلے واجب الادا ٹیکسوں کی ادائیگی چھوٹی اقساط میں یا یکمشت ادا کر سکیں گے۔

جولائی کے اوائل میں، سٹی ایک فائنل ٹیکس بل جاری کرے گا جس کی ادائیگی کی واجب الادا تاریخیں 23 ستمبر، 21 اکتوبر اور 18 نومبر ہوں گی۔